




ترور بردح

رُسْرِيْرِ مِي مُرْرَئِ سُرَعُ مُنْ مُرْمِدُ مُنْ مُرَاءِ مُرْمُدُ مُرَاءِ مُرْمُدُ مُرْمِدِ 2023 مُرْمُدِ 2023

10:00 : 25

رد و سرس مرس مرس مرس مرس مرس الله (IUL)30-C/30/2023/39



21221 (2101) 8242 58VAF-2

ا. وَسَوْرَاهُوْ هُوْ وَسِوْ
 ۱. وَسَرَاهُو هُوْ مُوْ سِوْ
 ا. وَسَرَاهُو هُو هُو مُوْ سُوْرَ مُو مُو دُورُ مُرَدُرُ مُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُ مُرَدُرُ مُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُرُ مُرَدُر

<u>Terms of Reference to seek consultancy services to conduct training programs on the</u> implementation of Maldives Good Agriculture Practice (MGAP) scheme

Ministry of Fisheries Marine Resources and Agriculture (MoFMRA) as one of the implementing partners of the "Project for Developing Sustainable Agricultural Economy" (PDSAE) is seeking a consultancy service to initiate the activity to mainstream and promote Good Agriculture Practices (GAP) in Maldives. The consultant will:

- Design an M-GAP Auditors' training program for the officials of MOFMRA, MFDA and other relevant stakeholders (MGAP Auditors) on the implementation of Maldives Good Agriculture Practice (MGAP) scheme
 - a. Prepare a training schedule in consultation with MOFMRA and MFDA
 - b. Provide list of materials for printing and list of material for procurement (if required)
 - c. Organize and carryout the M-GAP training program in Male (3 days)

2. Design a Farm Auditor Training program for farm inspectors (officers from island councils and other relevant local institutions), whom will be assisting audits carried out by the Certification-

Body (MFDA) in the future

a. Prepare a training schedule in consultation with MOFMRA and MFDA

b. Provide list of materials for printing and list of material for procurement (if required)

c. Organize and carryout a training program for farm inspectors, whom will be assisting

audits carried out by the M-GAP Auditors in a selected island (3 days)

3. Oversee and assist trained auditors while carrying out training programs for farmers and farm

inspections during the first batch

4. Develop a plan to guide promotion of MGAP practices and certified products

5. Provide written reports in English within a week after the completion of final assignment

Qualifications:

M.Sc. degree in Agriculture/Agronomy/Horticulture with specialization in quality control or any

directly related field.

At least five years practical hands-on field experience in quality assurance of food commodities

Experience in implementing GAP or any other similar schemes

Ability to participate in a multidisciplinary development effort

Be able to understand the socio-economic fabric of the country

Willingness and fitness to travel extensively by sea in an atoll environment.

Duration:

25 days

Work station: Male and agricultural islands of Maldives and Home-based

Interested applicants must send their application letter, detailed resume of the lead consultant

with attested copies of certificates.

For more information, please call +960 3339202, +960 3339207, +960 3339282

- 2/27/2 43 /0m/ m/3/2 ·2
- 2.2 رَسْرُقُرْ مِ رَسُّ مُرْرَعُسُونَ مُّ مُعِرِدُ: 21 وَمُعْتُرَمِي 2023 مَاءِ: 10:00
- 2.3 مَسْرَّرُ مَ رَسُّ وَمَرْرُوْسُ مُرَدُّ وَمِرْسُهُ مِي مِرْوَ وَسَمَرِيْ وَمِسْ مِرْدُوْ مَرَدُوْ مُرَدُو وَوَسَّدُ 7 وَسَرُ وَسُرُورُوْ
- 2.4 مُسْرِّب رِسُوْ دَرُرْزُوْرُ مَسِ مَدْ دُوْرُوْ سَسْرَيْ يَ دُرْسُ دَرُرُوْ مُسْرِّب رِسُوْرُوْ صَرْدُو بِ
 - - 2.6 و مع الديور مرس الريا ورساد وبرور ومراد ماد ماد مرور المورد المراد وراد المراد المراد و المرد و المراد و المرد و ال
- 2.9 مَرْمُرُّ مِنْ وَمُوْ مُوْمُ مُوْمُ مَا وَمُوْمُ مُوْمُ مُوْمُ مِوْمُ مُوْمُ مِوْمُ مُوْمُ مِوْمُ مُوْمُ مِوْمُ مُوْمُ مِوْمُ مُوْمُ مِعْمُوْمُ مِعْمُومُ مُعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُومُ مُعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُمُ مِعْمُومُ مِعْمُمُ مِعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُومُ مِعْمُعُمُ مُعْمُومُ مِعْمُعُمُ مِعْمُومُ مِعْمُعُمُ مِعْمُومُ مِعْمُعُمُ مِعْمُومُ مِ
- 2.10 ﻣﯩﺮﯨﺮﯨﯔ (ﺗﯩﺪﯗﺳﯘﺳﯘ ﺷﯩﺮﯗﺭﯨﻨﯘ ﭼﯘﺭﯗ ﺳﻮﭼﯘﺗﯩﺪﯗﺩ ﺷﯩﺮﯗﺭ (ﺗﯩﺪﯨﺮ ﺋﯩﻨﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﺮﯗﭖ ﺭﺳﺎﯓ (ﺗﯩﺪﯨﺮ ﺗﻮﺭﯗ) ﺩﯨﻨﻪﺩﯨﺪﻩ ﻣﯩﺮﻯ ﺗﯩﻨﺪﯗﺭ.

 - 3.1 وَسَرْمَا مُوْهُ مُرَّمِهُ مُرَّمِهُ فَوْرُ رَدُو (فِيرْسُمْ فِي رِوْسُرْرِدُسُ
 - 3.2 رُمْرَكُ صِنْ ذَكُمْ وَكُوْدُوكُ مِنْ 60 (وَصَحْرَوْ) كُرُورْدُ وَجِنِعِ وَمُوْرُوهُ مِرْوَمُ مُرْسُرُسُوفُسُمُو.

 - 3.5 دِ دَسَوْرَنْ وَيُ سَمِرْمِعِ دُ رَحْرَمْ اللهِ \$ 0.05 مَرْدُرُ دُوْ.
- 3.6 هِ مُعْرِدُمُ وَ وَرَدُورُونَ هِ فَيْ وَرَدُورُونَ هِ فَيْ وَرَدُورُونَ وَرَدُورُونَ مَنْ وَرَدُونَ مَنْ وَرَدُونَ مَنْ وَرَدُونَ مَنْ وَرَدُونَ مَنْ وَرَدُونَ وَالْمُؤْنِ وَلَالِهُ وَالْمُؤْنِ وَالْ
- - 3.9 दर्रहें दूर दें रहें तह.
 - 3.10 والرؤيري مري موهي مراسم لا بر
 - 3.11 השתכם כת של גני בשירות בשירות בחוצת בדורה
 - 3.12 مُشْ مُرُوْ رِ سَرُوْ مُشْ مُرُوْ رِ بِي عِنْ عُرْ سُوْ مُرْ مِنْ مِنْ مُرْ تَرْدِ

- 3.13 يح. دُرْ شَرَع بِي بَرْجِ شَوْع بُرْ شَهِ لِي ﴿ وَجَدْ الْجِي رَبُرُ بَرُمْ الْجَرِي مِنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ
- 3.14 3.14 3.14 3.14 3.16 3.14 3.16
 - 3.15 בּנְרִעִינִנ׳ בִּעבּב בֹנִבְּנִי בְּנִבְּנִי בִּעבּ בֹּבְּנִבְיִנְ עִנֹבְ בִּעבּב בִּבְּנִבְּנִי בִּנְבְּנִבְּנִי בִּנְבְּנִבְּיִ בְּנִבְּנִי בְּנִבְּנִי בְּנִבְּנִי
- 3.16 دَسَوْرَمُوهُ وَهُوْرِمُوْدُو مُرَمِّرُ وَمُرِّمِرُ وَمُرَّمِرُ وَمُرَّمِّ وَمُرَّمِّ وَمُرَّمِّ وَمُرَّمَ وَمُرَّمُ وَمُرَّمَ وَمُرَّمَ وَمُرَّمَ وَمُرَّمَ وَمُرْمَوْ وَمُرْمَوْ وَمُرْمَوْ وَمُرْمُونِ وَمُرْمُونُ مُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمِونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرَامُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُ وَمُرَامُ وَمُرْمُ وَمُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ ومُونُونُ وَمُونُونُ و
 - 3.17 و ورود ع فرود ادر المريد المريد
 - 3.18 و ورود كا فرود 2 در المراب رسات درز الله

سَمُعُ: وِ وَدُمُونُ مَا 6. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. مَمْ 3. مَمْ 3. مَمْ مُمْ مُمْ مُرَّمَ مُرُ وَمُومُ وَمُرَّمَ وَمُرَامُ وَمُرَّمَ وَمُرَّمَ وَمُرَّمَ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُ وَمُومُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُومُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُومُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُرْمُ وَمُومُ وَمُومُومُ وَمُومُ وَمُو

4. مُسْرَقُ مِ رَسُّوْدُر صُرُوْمِرُو وَمُرْمُوهُ

ڝڔؙۺ ۯڎۊۜڿۅۅؘڔۅؘۺ؞ ۅۺڗؙڽڔۼڿۿؠ ڵؿڎڎ ڰٛۺۺ (ڰٛۺۺ ۺۺڡؘڔ: 18/2014) ڎ ۼۯۺ ۅۺڗٞؠڔۼڿۻۿؠڔ ڵۼۅۅؘڔۊؙ ؞؞ؚڽڎڔڞۺڵڴ ۯؙڲۿۿؙٵڂۏ؞

- 4.1 ورور مراد ما مرور مراجع الما المراجع المرا
 - 4.2. بُرُجْ سَرَبر سَوْدُ فَرُسْرُى فَرَسْرُ بَرَي سَوْجَ بِرِ لَا مُرْدِ وَرِدُو بُرُجُسُ مِرسَوْدُو كُرُدُ
- 4.3 كَوْمُرُو وَرُو كَوْمُرُو وَرُولُو كَوْمُرُو كَوْمُورُولُو كَاوْمُرُو كَاوْمُرُو كَاوْمُرُو كَاوْمُرُو كَاوْمُرُو
- 4.4 . ﴿ رُورُ وَكُوْرُو وَ وَرُورِ وَ وَكُورُو وَ وَرُورُو وَرَو وَ وَرَو وَالْمِوا وَالْرَو وَالْمِوا و
- 4.5 و دُسَادُمَاهُرُ دُسْوُرَ رَسُونَ دُرَرُوْوَهُ وَيُرْسَهُ رُوَّوُوُودِ وَسِر رُوَدُمَاسِ نَامِ دُوْ وَشِر وَوْرَ وَسُرِ دُوْرَ وَسُرِهُ وَ وَكُوْ وَسُرِهُ وَمِر رُوَدُمَاسِ نَامِ دُوْرَ وَسُرَوْد. وِدُوْرِ دِرَ رُدُسُ دُوْرِدِ) هُمَارُوْد
- 4.5 و وَرُدُوْدُ 4.1 کَدِ صَرُّسُرُنگُ وَکُمُونُوکُ دِنْدُسُ دَرُسُ وَکُمُونُونُونُ وَکُرُ نَامِوَ مِوْوَسُرَوَ دَامِسُ صِوْسُ سَمِعْ کَدِ صَرُّسُ تَامُونُو مُوسُدُوْ.

5. رُبِرِ دُوس دُوس وَبُرُوس.

- 5.2 . ﺋﻮﻟﺪﯗ ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺮﯨ ﻭﻟﯩﺮﺗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺷﯘﺗﻰ ﺑﺮﺷﯘﺳﯘﺗﯩﺮﯨﻐﯩﺪﯗ ﺗﯘﺗﯘ ﺗﺮﯨﺪ ﺋﺎﺗﺪﻯ ﺗﯘﺳﯩﺮﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨ ﺳﯩﻐﯘﺗﯩﺮﯨﯔ . 5.2 . ﺋﻮﻟﯩﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯨﺪﯗ . ﺋﯩﺮﯨﺪﯗ ﺋﯩﺮﯨﺪﯗ . ﺋﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯩﺮﯨ

6. درسردر رساده کامور مایرسر.

7. دُوْوُسُ وَرِبُ رُورِ دُوْوُسُ وَرِبُ دُورِ مُنْاوُسُ وَرِبُودُ

- رَوْرِ (مُوَرَّمَ وَرِبُّ وَمُرْمَوْرٍ وَمُرْمِ رُوَرُوهُ وَ وَوَ رَدَّ -50,000/ (وَرَوُرَمَ وَرَبُّ رَبُّ 7.2 مَرْوَرِ مَنْ وَرَبُّ وَرَبُّ مُرْمَدُوهُ وَ مُرَّا مُرْمُودُ وَيَوْرَ مَنْ الْمُرْمُودُ وَيَوْرَا وَمُرْمُودُ وَيَوْرَا وَمُرْمُودُ وَيَوْرِ مِنْ مُرْمُودُ وَيُودُ مِنْ مُرْمُودُ وَيَوْرِ مِنْ مُنْ مُرْمِدُ وَيَعْمُ مِنْ مُودِ وَيَعْمُ مِنْ مُوالِمُودُ وَيَعْمُ مِنْ مُنْ مُودِمُ وَيَعْمُ مِنْ مُودِمُ وَيَعْمُ مِنْ مُودِمُ وَيَعْمُ مِنْ مُودُودُ وَيَعْمُ مِنْ مُودُودُ وَيْمُ وَيَعْمُ مِنْ مُودُودُ وَيَعْمُ مِنْ مُودُودُ وَيَعْمُ مِنْ مُنْ مُودُودُ وَيَعْمُ مِنْ مُودُودُ مِنْ مُنْ مُودُودُ وَيْمُ مُرْمُودُ وَيْعُودُ وَيَعْمُ مُودُودُ وَيُودُودُ مِنْ مُودُودُ ورَدُودُ مُنْ مُودُودُ مِنْ مُنْ مُودُودُ مِنْ مُودُودُ مِنْ مُودُودُ مِنْ مُودُودُ مِنْ مُودُودُ مِنْ مُودُودُ مِنْ مُودُودُ مُنْ مُنْ مُودُودُ مُودُودُ مُودُودُ مُودُودُ مُودُودُ مُودُودُ مُودُودُ مُنْ مُعْمُودُ مُودُودُ مُ
- 7.3 مَنْ قَرْبُ وَرُبُ وَرُورُمُ وَ رَرَزُوسُونَ وَسَمْرَاهُ رَقُوقُهُ 45 (سَّرِبُ وَرُدُ) فَرَوْرُو هُمُّ وَرَدُ وَمُرَوْدُ وَمُرَوْدُ وَمُرَاءُ وَمُرَاءً وَمُرَاءُ وَمُرَاءً وَمُواءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُواءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُواءً وَمُ وَمُراءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُواءً وَمُرَاءً وَمُراءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُ وَالْمُ وَالْمُ والِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُواءِ وَالْمُ وَالْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُواءُ وَالْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُواءُ وَالْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُواءُ وَالْمُواءُ وَالْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُواءُ وَالْمُواءُ وَالْمُواءُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُواءُ وَالْمُواءُ وَالْمُ والْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْم
- 7.4

 7.4 <b
- 7.5 مَيْ وَسَرْمُ وَرِسُونُ خَوْدَرُ وَنَهُ وَمِ مُرَامُونُ فَوْدُ مُدُدُ اللهِ اللهِ مِرْسَامُرُمُ) مُرُونُهُ خَيْسَوُ اللهُ مَدْدُونُ مُرْدُونُ اللهُ مُرْدُمُ مُرْدُونُ اللهُ مُرْدُمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ اللهُ مُرْدُمُ اللهُ مُرْدُمُ اللهُ اللهُ

8. مع مرديع

- 8·1 ﴿ وَوَرُ رَمَرُكُ رَهُ مِنَ مَا 500,000 (وَصَوَرُمَ) ثَرَوِ اللَّهُ مَا وَهُو اللَّهُ مَا مَا مَا مَا اللهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ مَا مُورُدُو اللَّهُ اللَّهُ مَا مُورُدُو اللَّهُ اللَّهُ مَا مُورُدُو اللَّهُ اللَّهُ مَا مُورُدُو اللَّهُ اللَّ
 - 8.2 هـ عُدِيرهِ وَدُورُهُ هِ وَ وَدُورُورُو مِنْ اللهِ وَدُورُورُومُ 30 (مِيرَ اللهُ وَفُ دُورُورُ وَاللهُ وَدُورُ وَمُورُورُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُورُ وَاللهُ وَاللّهُ ول
- 8.4 هُوَسُ بِرُ رُفُونَا بُرِ بُرُونُ مُرَبِّ رُبِي هُرِيْسُ وَبِرِي بُرُوهِ مُرْبُو مُرَّوِنَ مُرَبِّ وَمُرَد بَرِرُهُ بِرُو يُرِيْمُونِا وَ فَا سَارِيمِ مُرَبِّي مُرْبِرِهِ مُرْبُرِهِ بَرْبِي مُرْبِرِي بَرِيْدِو بَرَدُونَا يَانَانَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَفَا الْمُرْبِي مُرْبِي مُرْبِرِينَ مُرْبُرِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَفَا الْمُرْبِينِ وَالْمُرْبِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَفَا الْمُرْبِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَفَا الْمُرْبِينِ وَالْمُرْبِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُومِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِ

9. بُرُمرُورُسُ دُمُسُوعٍ.

- 9.1 ﴿ وَمَوْرَهُ مَرَدًا مَرَدًا مَرَدًا مَرَدَا مَا مَرَدَا مَا مُورِدَا مَا مُعَالَعُونَا مُورِدَا مَا مُعَالَعُونَا مُورَدَا مَا مُعَالَعُونَا مُورَدَا مُعَالِعُونَا مُورَادَا مُعَالِعُونَا مِنْ مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مِنْ مُعَالِعُونَا مِنْ مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُ مُعَالِعُونَا مُعَالِعُ مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا مُ
- 9.2 ئېرگورۇس ئىرىم د درگرى درگرى د درگرى د ئىرى ئىرى ئىرى ئىرى د د كەركى د درگرى درگرى د درگرى درگرى درگرى د درگرى درگرى د درگرى درگرى درگرى درگرى درگرى درگرى درگرى درگرى داد درگرى درگرى
- 9.3 ئِيمَ وَرُسُوهُ وَيُمْرُمُ وَمُرُمُ وَمُرُ يُورِدُهُ مِرَدُورُ مُرَوَدُ وَوَ وَدُورُورُ وَرُورُ وَرُسُومُ وَيُمْرُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُورُورُ وَرُورُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُورُ وَرُورُورُورُ وَرُورُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُ وَا وَرُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُ وَا وَالْرُورُورُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُورُ وَالْرُورُورُورُورُ وَالْرُو

- 10.1 כ כֹשׁהְאֹמֶל שִּלָּשׁ נִעִּל נָאֹפּאָעׁנ שְּלָשׁהֹאֹר הְפֹּלָהִפּּע נִאֶל הְאַל בּאָל הְאַנְיִים בּאָל היינים בּאָל
- 10.2 مَنْ مُرْجَعِیْ و وَسَرَمْ مُرَفَیْ مُمْرِیْ مُرْکَوْ مُرَمِیْ مُرْدُونِ مُرَمِیْ مُرَدُونِ مُرَمِیْ مُرَدُونِ مُرَمِیْ مُرَدُونِ مُرَمِیْ مُرَدُونِ مُرَمِیْ مُرَمِیْ مُرَدُونِ مُرَمِیْ مُرمِیْ مُرَمِیْ مُرمِیْ مُرمِی مُرمِیْمِ مُرمِی مُرمِی مُرمِی مُرمِی مُرمِی مُرمِی مُرمِی مُرمِی مُرمِ

مر ورسمس 30 (مويرس) ورسرع:

ב־הרעים ב ב תשורים (30 (סמרים) ב העים

- تَوْجِ دُشْرَمُوسُ دُوْ وَقَ مَرْدِي عُرْدِي دُوْ دَرَيْدُ وَصُدْرَدُ وَسَامَوْهُ مُوْتِهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وُبُرِيْدُ (

شرؤم

- وَسُورَامٌ وَيْ وَرُسُ قُرِمُورُورِ 10 وَرُسُودُ مَوْقِيمٍ \$ (30 وَبَرْسُ)

رسرع ور 40 (سريم) بررسرع

بسسابنالزم الزحيم



عَرُورُ 1 - (مرروسع روسرورد كروسع

وسرسه عمری وکرهس	מינים ב''' ב''' מינית (מ''נ' '''' ''''''	مُرُّ سِيرُ	#
✓ x	✓ ×		
		ر در	1
		وَالْمَرْمَانُونُ شَرْوَهُ مَرَامِي فَرْوَ رَدُ (وِرَسْ عِ رِوْسَرِدِيْش)	2
		פ''יינים מינים לי'י לי'י פ'ייני פ'ייני פ'ייני פ'ייני פ''יינים מתמכפת מפא באים באמתקמפת (מיני פ'ייני פ'ייני	3
		× י 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4
		רינים של באר בתפבית 60 בקבים ברונס גם המתימת פתרם. רינריל של באר בתפבית	5
		هران (زرار کار کار کار در	6
		عِنْ كُوْرُ رُدُ 500,000 كُرُورُرُدُوكُمْ فَيْ وَسُرُدُ، عِنْ سُمِرْدَمِعِ.	7
		ورورد بخرور و	8
		و مرکویری کری سامع بری کاید.	9
		המתכים בת-20 במת במת בחבת בתבת בתבח	10
		رُهُ . دُوْ رُو مُرُو مُرُو مُرِي مُوْ مُو مُنْ مُورُدُ مُرِي مُنْ مُودُ مُرِدٍ .	11
		ي. دُبْ عِ شَرُورَ عَ وَبِي مَرْضِ عُنْ عَبْ سُونُ مُ عُرِينَ كُلْ إِنْ (بِهِ رُسُعٍ رُسُرُ	12
		ז ם איני איני מפרש איני מת בנת פיתר) איני מיש איני איני איני איני איני איני איני אי	
		ים י אמט יו איי ס 00 כיום יי ויכן כי יי איק אפער איק	13
		2 ארת ב ממנה לינים בינים ביני	
		י יסיכי יד לי דים בייינר מז מים ת תניית בייינר מז מים אינות מים ביינות מים	14
		دوروز کرارورور درورور درورورورورورورورورورورورورو	15
		x (3% 21/2 97/2) \$\frac{2}{3}\times \frac{2}{3}\times \frac{2}{3}	



عَرُورُ 2 - مُرْمُرُب رِسُوْ (مُرَرُّ وَوَ عَرَارُو وَوَ عَرَارُو وَوَ عَرَارُو وَوَ عَرَارُو وَوَ

21227 UCH 1001 82712 1000 1 5 3511	
	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
	ילים אילים: האת אילים:
	:31 432 5177

מינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו א						
% ,	مری ده م ریروپرز ریروپرز	2 2 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ק אני איני שיניע ק אני באיני שיניע			

769977 (0(6) 0/3 0 00 07XU(64 40 \$24A2 SASKE ZHS HAKEMP HSS/E EN-JH # 14 1/	
	ب ث ر:
	: - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
	هُرِوْ كَيْرُ سُرَيْرُهُ ثَرُ:
	ورو دعرت
מומל היוני ביוני ביו	
י נים אורי או נינניין אורי אורי אורי אורי אורי אורי אורי אורי	\$1,50 2,500,5
0000 3.28°	بر.
	: e